

القرآن الكريم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں کے شر سے

المنزل-۳

آياتها - ۱۵۴ , رُكُوْ عَاتُهَا - ۱۹

وَمَا أَلْبَسِيْهِ نَفْسِيْ - ۱۳

رُكُوْ عَاتُهَا-۱۲

سُوْرَةُ يُوسُفَ (مكي)

آياتها-۱۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَمَا أَلْبَسِيْهِ نَفْسِيْۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْءِۚ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيۚ إِنَّ رَبِّيۚ غَفُوْرٌۢ
المنزل ۳- حِيْمٌ ﴿۵۳﴾

اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا ہے شک نفس تو برائی ﴿۵۳﴾
سکھاتا ہے مگر جس پر میرا رب مہربانی کرے ہے شک میرا رب
بخشنے والا مہربان ہے

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِيۢ بِهٖۤ اَسْتَخْلِصُهَا لِنَفْسِيۚ فَلَمَّا كَلَّمَهَاۚ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا
مَكِيْنٌۢ اٰمِيْنٌ ﴿۵۴﴾

اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ اسے خاص اپنے ﴿۵۴﴾
پاس رکھوں پھر جب اس سے بات چیت کی کہا ہے شک تو آج سے
ہمارے ہاں تو بڑا معزز اور معتبر ہے

قَالَ اجْعَلْنِيۢ عَلٰۤى خَزَاۤئِنِ الْاَرْضِۚ اِنِّيۚ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ﴿۵۵﴾

کہا مجھے ملکی خزانوں پر مامور کر دو ہے شک میں خوب حفاظت ﴿۵۵﴾
کرنے والا جاننے والا ہوں

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۖ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

اور ہم نے اس طور پر یوسف کو اس ملک میں باختیار بنا دیا کہ اس ﴿٥٦﴾ میں جہاں چاہے رہے ہم جس پر چاہیں اپنی رحمت متوجہ کر دیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے

۱۰ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

اور آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور ﴿٥٧﴾
اع پرہیزگاری میں رہے

وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾

اور یوسف کے بھائی آئے پھر اس کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے ﴿٥٨﴾ انہیں پہچان لیا اور وہ پہچان نہیں سکے

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِآخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾

اور جب انہیں ان کا سامان تیار کر دیا کہا میرے پاس وہ بھائی بھی ﴿٥٩﴾ لے آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے تم نہیں دیکھتے میں ناپ پورا دیتا ہوں اور بڑا مہمان نواز ہوں

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے ﴿٦٠﴾ پیمانہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا

قَالُوا سُرَّادُ عِنْدَهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾

انہوں نے کہا اس کے باپ سے خواہش کریں گے اور ہم یہ کر کے
ہی رہیں گے

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى
أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

اور اپنے خدمتگاروں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی ان کے اسباب
میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچانیں جب وہ لوٹ کر اپنے گھر جائیں شاید
وہ پھر آجائیں

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلُ
وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿٦٣﴾

پھر جب اپنے باپ کے ہاں پہنچے کہا اے باپ! ہمارا پیمانہ روک لیا
گیا پس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیئے کہ ہم پیمانہ لائیں
اور بے شک ہم اس کا نگہبان ہیں

قَالَ هَلْ أُمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿٦٤﴾

کہا میں تمہارا اس پر کیا اعتبار کروں مگر وہی جیسا اس سے پہلے
اس کے بھائی پر اعتبار کیا تھا سو اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب
مہربانوں سے مہربان ہے

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَآ مَا نَبَغِي هَذِهِ
بِضَاعَتِنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُهُ أَهْلُنَا وَنَحْفُظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ
يَسِيرٌ ۝٦٥

اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا انہوں نے اپنی پونجی پائی جو ۶۵
انہیں واپس کر دی گئی تھی کہا اے ہمارے باپ! ہمیں اور کیا چاہیئے
یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور اپنے گھر والوں کے
لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک
اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے اور یہ بوجھ ملنا آسان ہے

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ
بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝٦٦

کہا اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ ۶۶
کا عہد دو کہ البتہ اسے میرے ہاں ضرور پہنچا دوں گے مگر یہ کہ تم
سب گھر جاؤ پھر جب سب نے اسے عہد دیا کہا ہماری باتوں کا اللہ
شاہد ہے

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابٍ وَاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنِّي أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي
عَنكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ ۝٦٧

اور کہا اے میرے بیٹو! ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور مختلف 67
 دروازوں سے داخل ہونا اور میں تمہیں اللہ کی کیسی بات سے بچا نہیں
 سکتا اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے
 اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہئے

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ^ط مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
 حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ^ع 68

اور جب کہ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم 68
 دیا تھا انہیں اللہ کی کسی بات سے کچھ نہ بچا سکتا تھا مگر یعقوب کے
 دل میں ایک خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا اور وہ تو ہمارے
 علم سے سکھانے والا تھا لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ 69

اور جب وہ یوسف کے پاس گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس 69
 جگہ دی کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں جو کچھ یہ کرتے
 رہے ہیں اس پر غم نہ کر

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنٌ أَيُّهَا
 الْعَبْرِيُّ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ 70

پھر جب یوسف نے اس کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے ⑦۰
اسباب میں کٹورا رکھ دیا پھر پکارے نے والے نے پکارا اے قافلہ
والو! بے شک تم البتہ چور ہو

قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ⑦۱

اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے ⑦۱

قَالُوا نَفَقِدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ⑦۲

انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا کٹورا نہیں ملتا جو اسے لائے گا ایک ⑦۲
اونٹ بھر کا غلہ پائے گا اور میں اس کا ضامن ہوں

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ⑦۳

انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے ہم اس ملک میں شرارت ⑦۳
کرنے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم کبھی چور تھے

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ⑦۴

انہوں نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلو ⑦۴

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ⑦۵

انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا ⑦۵
جائے پس وہی اس کے بدلہ میں جائے ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَٰٓءَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

پھر یوسف نے اپنے بھائی کے اسباب سے پہلے ان کے اسباب ﴿٧٦﴾ دیکھنے شروع کیے پھر وہ کٹورا اپنے بھائی کے اسباب سے نکالا ہم نے یوسف کو ایسی تدبیر بتائی تھی بادشاہ کے قانون سے تو وہ اپنے بھائی کو ہرگز نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر ایک دانا سے بڑھ کر دوسرا دانا ہے

قَالُوا إِنِّي يَسْرِقٌ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ﴿٧٧﴾ بھائی نے بھی چوری کی تھی تب یوسف نے اپنے دل میں آہستہ سے کہا اور انہیں نہیں جتایا کہا تم درجے میں بدتر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

انہوں نے کہا اے عزیز! بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے ﴿٧٨﴾ سو اسکی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لے ہم تم کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۖ إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ۗ

کہا اللہ کی پناہ کہ ہم بجز اس کے جس کے پاس اپنا اسباب پایا کسی 79
ع اور کو پکڑیں تب تو ہم بڑے ظالم ہیں

فَلَمَّا اسْتَأْيَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ
عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۚ فَلَنْ أْبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى
يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۗ

پھر جب اس سے ناامید ہوئے مشورہ کرنے کے لیے اکیلے ہو بیٹھے 80
ان میں سے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم
سے اللہ کا عہد لیا تھا اور پہلے جو یوسف کے حق میں قصور کر چکے
ہو سو میں تو اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ
مجھے حکم دے یا میرے لیے اللہ کوئی حکم فرمائے اور وہ بہتر
فیصلہ کرنے والا ہے

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا
كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۗ

تم اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ! تیرے بیٹے 81
نے چوری کی اور ہم نے وہی کہا تھا جس کا ہمیں علم تھا اور ہمیں
غیب کی خبر نہ تھی

وَسَأَلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۗ

اور اس گاؤں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے ⑧۲
بھی جس میں ہم آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ
جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ⑧۳

کہا بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنا لی ہے اب صبر ہی بہتر ہے اللہ ⑧۳
سے امید ہے کہ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے وہی جاننے
والا حکمت والا ہے

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضْتُ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ⑧۴
اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف! اور غم سے ⑧۴
اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں پس وہ سخت غمگین ہوا

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُوَا تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ⑧۵
انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو یوسف کی یاد کو نہیں چھوڑے گا یہاں ⑧۵
تک کہ نکما ہو جائے یا ہلاک ہو جائے

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑧۶
کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں ⑧۶
اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

يَبْنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا
يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ⑧۷

اے میرے بیٹو! جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ ۸۷
 کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں
 ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ
 فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۘ ۸۸

پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا اے عزیز! ہمیں اور ہمارے گھر ۸۸
 والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے اور کچھ نکمی چیز لائے
 ہیں سو آپ پورا غلہ بھر دیجیئے اور خیرات دیجئے بے شک اللہ خیرات
 دینے والوں کو ثواب دیتا ہے

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۙ ۸۹

کہا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ۸۹
 کیا تھا جب تمہیں سمجھ نہ تھی

قَالُوا ءَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ
 يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۙ ۹۰

کہا کیا تو ہی یوسف ہے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے ۹۰
 اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ
 بھی نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ۙ ۹۱

انہوں نے کہا اللہ کی قسم البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں ہم پر بزرگی دی ⑨۱
اور بے شک ہم غلط کار تھے

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ⑨۲

کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب سے زیادہ ⑨۲
مہربان ہے

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِيْ هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا وَأْتُوْنِيْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ ⑨۳

ع۲

یہ کرتے میرا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو کہ وہ ⑨۳
میرے پاس اپنے سب کنبے کو لے آؤ

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ قَالَ أَبُوْهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُوْنَ ⑨۴

اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا بے شک میں یوسف ⑨۴
کی بو پاتا ہوں اگر مجھے دیوانہ نہ بناؤ

قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ⑨۵

لوگوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک تو البتہ اپنی گمراہی میں مبتلا ⑨۵
ہے

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ الْاَقْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ⑨۶ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي

أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ⑨۶

پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اس نے وہ کرتہ اس کے منہ پر ڈال ۹۶
 دیا تو بیٹا ہو گیا کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف
 سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خُطِيئِينَ ۹۷

انہوں نے کہا اے ہمارے باپ! ہمارے گناہ بخشوا دیجیئے بے شک ہم ۹۷
 ہی غلط کار تھے

قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۹۸

کہا عنقریب اپنے رب سے تمہارے لی معافی مانگوں گا بے شک وہ ۹۸
 غفور رحیم ہے

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْىٰ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ ۹۹

پھر جب یوسف کے پاس آئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ۹۹
 جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن سے
 رہو گے

وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ مِرْيَامِ مِنْ
 قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ
 الْبَدُوِّ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ
 هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۱۰۰

اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور اس کے آگے سب ⑩
 سجدہ میں گر پڑے اور کہا اے باپ میرے اس پہلے خواب کی یہ تعبیر
 ہے اسے میرے رب نے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان کیا
 جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں گاؤں سے لے آیا اس کے
 بعد کہ شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں جھگڑا ڈال چکا ہے شک
 میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے مہربانی فرماتا ہے بے شک وہی
 جاننے والا حکمت والا ہے

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۗ أَنْتَ وَوَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ⑩
 اے میرے رب تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے ⑩
 خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھلایا ہے اے آسمانوں اور زمین کے
 بنانے والے! دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے تو مجھے
 اسلام پر موت دے اور مجھے نیک بختوں میں شامل کر دے

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ
 يَمْكُرُونَ ⑩

یہ غیب کی خبریں کہیں جو ہم تیرے ہاں بھیجتے ہیں اور تو ان کے ⑩
 پاس نہیں تھا جب کہ انہوں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا اور وہ تدبیریں کر
 رہے تھے

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ⑩

اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں خواہ تو کتنا ہی چاہے ⑩

ۛ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝١٠٤

اور آپ اس پر ان سے کوئی مزدوری بھی تو نہیں مانگتے یہ تو ۝١٠٤
صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے

۝١٠٥ وَكَأَيِّنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝١٠٥
اور آسمانوں اور زمین میں بہتی سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ ۝١٠٥
گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر لیتے ہیں

۝١٠٦ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ۝١٠٦

اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور ۝١٠٦
شرک بھی کرتے ہیں

۝١٠٧ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ۝١٠٧

کیا اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں اللہ کے عذاب کی ایک ۝١٠٧
آفت آپہنچے یا اچانک قیامت ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو

۝١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝١٠٨

کہہ دو میرا اور میرے تابعداروں کا بصیرت کے ساتھ یہ راستہ ہے ۝١٠٨
کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور اللہ پاک ہے اور میں

شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

اور تجھ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب بستیوں کے ⑩
رہنے والے مرد ہی تھے ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے پھر وہ
زمین میں سیر کر کے کیوں نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا
جو ان سے پہلے تھے اور البتہ آخرت کا گھر پرہیز کرنے والوں کے
لیے بہتر ہے پھر تم کیوں نہیں سمجھتے

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّى مَنْ
نَشَاءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے اور خیال کیا کہ ان سے ⑪
جھوٹ کہا گیا تھا تب انہیں ہماری مدد پہنچی پھر جنہیں ہم نے چاہا بچا
لیا اور ہمارے عذاب کو نافرمانوں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۙ ﴿١١١﴾

البتہ ان لوگوں کے حالات میں عقلمندوں کے لیے عبرت ہے کوئی ⑪
بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کلام کے موافق ہے جو اس سے پہلے

ہے اور ہر چیز کا بیان اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے
۶ جو ایمان لاتے ہیں

آیتھا-۴۳

سُورَةُ الرَّعْدِ (مکی)

رُكُوْعَاتُهَا-۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْمَرَّةَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ①

یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کچھ تجھ پر تیرے رب سے اترا سوحق ①
ہے اور لیکن اکثر آدمی ایمان نہیں لاتے

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ②

اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم ②
دیکھ رہے ہو پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام پر لگا
دیا ہر ایک اپنے وقت معین پر چل رہا ہے وہ ہر ایک کام کا انتظام کرتا
ہے نشانیاں کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کر لو

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ
فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ③

اور اسی نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ③
 زمین میں ہر ایک پہل دو قسم کا بنایا دن کو رات سے چھپا دیتا ہے بے
 شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں

وَ فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُهُ
 صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۖ وَنُقِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ④

اور زمین میں ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور انگور ④
 کے باغ ہیں اور کھیتیاں اور کھجوریں ہیں ایک کی جڑ ملی ہوئی بعض
 بن ملی انہیں پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے اور ہم ایک کو دوسرے پر
 پھلوں میں فضیلت دیتے ہیں بے شک اسمیں عقل مندوں کے لیے بڑی
 نشانیاں ہیں

وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ ۝٥ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ⑤

اگر تو عجیب بات چاہے تو ان کا یہ کہنا عجب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ⑤
 ہو گئے کیا نئے سرے سے بنائیں جائیں گے یہی وہ ہیں جو اپنے رب
 سے منکر ہو گئے اور انہیں کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی
 دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُطُ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ⑥

اور تجھ سے بھلائی سے پہلے برائی کو جلد مانگتے ہیں اور ان ⑥
سے پہلے بہت سے عذاب سے گزر چکے ہیں اور بے شک تیرا رب
لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے معاف بھی کرتا ہے اور تیرے رب
کا عذاب بھی سخت ہے

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلكلِّ قَوْمٍ
ءَاهَادٍ ⑦

اور کافر کہتے ہیں اس کے رب سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں ⑦
اتری تم تو محض ڈرانے والے ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک رہبر ہوتا
ہے آیا ہے

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ
بِمِقْدَارٍ ⑧

اللہ کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہے ⑧
اور جو کچھ پیٹ میں سکرٹتا اور بڑھتا ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کا
اندازہ ہے

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ⑨

پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے سب سے بڑا بلند مرتبہ ہے ⑨

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَ مَّنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَّنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ
بِالنَّهَارِ ⑩

تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے یا پکار کر کہے ⑩
اور جو شخص رات میں کہیں چھپ جائے یا دن میں چلے پھرے یہ
سب برابر ہیں

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِّنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمِهِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ⑪ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُمْ
مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ⑪

ہر شخص حفاظت کے لیے کچھ فرشتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے ⑪
اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی
حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ کو
کسی قوم کی برائی چاہتا ہے پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا اور اس
کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ⑫
وہی ہے جو تمہیں خوف یا امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور ⑫
بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے

وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ⑬ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا
مَنْ يَشَاءُ وَ هُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ⑬

اور رعد اسکی پاکی کے ساتھ اسکی تعریف کرتا ہے اور سب ⑬
فرشتے اس کے ڈر سے اور بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا
ہے گرا دیتا ہے اور یہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ
بڑی قوت والا ہے

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ

كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ⑭

اسی کو پکارنا بجا ہے اور اس کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ ⑭
ان کے کچھ بھی کام نہیں آتے مگر جیسا کوئی پانی کی طرف اپنے
دونوں ہاتھ پھیلائے کہ اس کے منہ میں آجائے حالانکہ وہ اس کے منہ
تک نہیں پہنچتا اور کافروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

السجدة

⑮

السجدة

اور چارو ناچار اللہ ہی کو آسمان والے اور زمین والے سجدہ کرتے ⑮
ہیں اور ان کے سائے بھی صبح اور شام

السجدة

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا

يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ⑯ أَمْ هَلْ

تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ⑰ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ

عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑱

کہو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے کہہ دو اللہ کہو پھر کیا تم نے ⑩
 اللہ کے سوا ان چیزوں کو معبود نہیں بنا رکھا جو اپنے نفسوں کے نفع
 اور نقصان کے بھی مالک نہیں کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر
 ہو سکتا ہے یا کہیں اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں کیا جنہیں
 انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے انہوں نے بھی اللہ کی مخلوق
 جیسی کوئی مخلوق بنائی ہے پھر مخلوق ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئی
 ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ اکیلا زبردست ہے

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ط
 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ط كَذَلِكَ يَضْرِبُ
 اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط ٥ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
 فَيَمُكُثُ فِي الْاَرْضِ ط كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْاَمْثَالَ ط ١٧

اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے اپنی مقدار میں نالے بہنے ⑩
 لگے پھر وہ سیلاب پھولا ہوا جھاگ اوپر لایا اور جس چیز کو آگ میں
 زیور یا کسی اور اسباب بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں اس پر بھی ویسا
 ہی جھاگ ہوتا ہے اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے پھر جو
 جھاگ ہے وہ یونہی جاتا رہتا ہے اور جو لوگوں کو فائدہ دے وہ زمین
 میں ٹھہر جاتا ہے اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ ط وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي
 الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ٥ وَمَا وَاوَهُمْ

جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے واسطے بھلائی ہے اور ⑱
 جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر ان کے پاس سارا ہو جو کچھ زمین
 میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی او رہو تو سب جرمانہ میں دینا قبول
 کریں گے ان لوگوں کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانا دوزخ
 ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے ⑱ع^{صف}

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
 الْأَلْبَابِ ⑲

بھلا جو شخص جانتا ہے کہ تیرے رب سے تجھ پر جو کچھ اترا ہے ⑲
 حق ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے سمجھتے تو عقل والے
 ہی ہیں

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ⑳

وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو نہیں
 توڑتے

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

الْحِسَابِ ㉑

اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کے ملانے کو اللہ نے فرمایا ہے اور ㉑
 اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۗ ﴿٢٢﴾

وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا مندی کے لیے صبر کیا اور نماز ﴿٢٢﴾
قائم کی اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا اور
برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں انہیں کے لیے آخرت کا گھر
ہے

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ ﴿٢٣﴾

ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ خود بھی رہیں گے اور ان کے باپ ﴿٢٣﴾
دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیکو کار ہیں اور ان کے
پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۗ ﴿٢٤﴾

کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے پھر ﴿٢٤﴾
آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۗ ﴿٢٥﴾

اور جو لوگ اللہ کا عہد مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس ﴿٢٥﴾
چیز کو توڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم فرمایا اور ملک میں
فساد کرتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۚ ﴿٢٦﴾

اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ اور تنگ کرتا ہے اور دنیا ﴿26﴾ کی زندگی پر خوش ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ وع نہیں مگر تھوڑا سا اسباب

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي ۗ إِلَيْهِ مَنَ أَنَابٌ ۗ ﴿٢٧﴾

اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب سے کوئی نشانی کیوں نہیں ﴿27﴾ اتری کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ ﴿٢٨﴾
وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسکین ﴿28﴾ ہوتی ہے خبردار! اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ۗ ﴿٢٩﴾
جو لوگ ایمان لائے او اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری اور ﴿29﴾ اچھا ٹھکانا ہے

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

اسی طرح ہم نے تجھے ایک امت میں بھیجا ہے کہ اس سے پہلے ③٠
 کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تو انہیں سنادے جو ہم نے تیری طرف
 حکم بھیجا ہے اور وہ تو رحمن کے منکر ہیں کہہ دو وہی میرا رب ہے
 جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور
 اسی کی طرف میرا رجوع ہے

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلَّ اللَّهُ
 الْأَمْرَ جَمِيعًا ۗ أَلَمْ يَأْيَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ
 ۗ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۗ ③١

اور اگر تحقیق کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا جس سے پہاڑ چلتے یا اس ③١
 سے زمین کے ٹکڑے ہو جاتے یا اس سے مردے بول اٹھتے (تب
 بھی نہ مانتے) بلکہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں پھر کیا ایمان والے
 اس بات سے نا امید ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو
 ہدایت کر دیتا اور کافروں پر تو ہمیشہ ان کی بد اعمالی سے کوئی نہ
 کوئی مصیبت آتی رہے گی یا وہ بلا ان کے گھر کے قریب نازل ہوگی
 یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف
 ۱۰۰ نہیں کرتا

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تَمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ
كَانَ عِقَابٍ ۝۳۲

اور تجھ سے پہلے کئی رسولوں سے ہنسی کی گئی ہے پھر میں نے ۳۲
کافروں کو مہلت دی پھر انہیں پکڑ لیا پھر ہمارا عذاب کیسا تھا

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَمُّوهُمْ ۖ أَمْ
تُنْبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۖ أَمْ بِيْظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۖ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مَكْرَهُمْ ۖ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۳

بھلا جو ہر کسی کے سر پر لیے کھڑا ہے جو اس نے کیا ہے اور ۳۳
انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں کہہ دو ان کے نام بتلاؤ کیا
اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا یا اوپر ہی کی
باتیں کرتے ہو بلکہ کافروں کے فریب انہیں بھلے معلوم کرائے گئے
ہیں اور وہ راستہ سے روکے گئے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر
اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۝۳۴

ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب ۳۴
تو بہت ہی سخت ہے اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہو گا

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ^ط تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ^ط أَكْهَبًا دَائِمًا وَظِلُّهَا^ط
تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا^ن وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ³⁵

اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے ³⁵
نیچے نہریں بہتی ہیں جس کے میوے اور سائے ہمیشہ رہیں گے یہ
پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے

وَالَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ
بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ^ط إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبُ³⁶
اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس سے خوش ہوتے ہیں جو ³⁶
تجھ پر نازل ہوا اور جماعتوں میں سے بعض لوگ اس کی بعضی بات
نہیں مانتے کہہ دو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی بندگی کروں
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اس کی طرف بلاتا ہوں اور
اسی کی طرف میرا ٹھکانا ہے

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا^ط وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ^ص
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ^ع ³⁷

اور اسی طرح ہم نے یہ کلام اتارا کتاب عربی زبان میں اور اگر تو ³⁷
ان کی خواہش کے مطابق چلے بعد اس علم کے جو تجھے پہنچ چکا
ہے تیرا اللہ سے کوئی حمایتی اور بچانے والا نہ ہوگا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً^ط وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ³⁸

اور البتہ تحقیق ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ہم نے ③۸
 انہیں بیویاں اور اولاد بھی دی تھی اور کسی رسول کے اختیار میں نہ
 تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی معجزہ لاتا ہر زمانے کے مناسب
 احکام ہوتے ہیں

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ^{صَلِّح} وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ③۹

اللہ جو چاہے موقوف کر دیتا ہے اور باقی رکھتا ہے اور اسی کے ③۹
 پاس اصل کتاب ہے

وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا
 الْحِسَابُ ④۰

اور اگر ہم تجھے کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم نے ان سے کیا ہے یا ④۰
 تجھے اٹھا لیں سو تیرے ذمہ تو پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا
 ہے

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا^ط وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ
 لِحُكْمِهِ^ط وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ④۱

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ④۱
 چلے آتے ہیں اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو ہٹا نہیں سکتا
 اور وہ جلد حساب لینے والا ہے


وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ^ط
 وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ④۲

اور ان سے پہلے لوگ بھی تدبیریں کر چکے ہیں سو اصل تدبیر تو ④۲
 اللہ ہی کی ہے جو کچھ کوئی کرتا ہے اسے سب خبر رہتی ہے اور ابھی
 کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کس کا ہے

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۗ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَمَنْ
 عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ④۳

اور کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے کہہ دو میرے اور تمہارے ④۳
 درمیان اللہ گواہ کافی ہے اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے

ع ۱۲



الرَّ ۗ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
 إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①

یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو ①
 لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف
 غالب تعرف کیے ہوئے راستہ کی طرف نکالے

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۗ
 ②

یعنی اللہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور ②
 کافروں پر افسوس کہ انہیں سخت عذاب ہونا ہے

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا
عُوجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ③

جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرتے ہیں اور اللہ ③ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ④ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ④ ہے تاکہ انہیں سمجھا سکے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ⑤ وَذَكَرَهُمْ
بِآيَمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ⑤

اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا کہ اپنی ⑤ قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا بے شک اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ⑥ وَفِي ذٰ

لَكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ⑥

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو ⑥ جب تمہیں فرعون کی قوم سے چھڑا یا وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اسمیں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش

۱۳ع تھی

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ⑦

اور جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو ⑦ گے تو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ⑧

اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور جو لوگ زمین میں ہیں سارے کفر کرو ⑧ گے تو اللہ بے پروا تعریف کیا ہوا ہے

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ⑨ وَالَّذِينَ مِن

بَعْدِهِمْ ⑩ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي

أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ

مُرِيِبٍ ⑨

کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے نوح ⑨ کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے اللہ کے سوا جنہیں

کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے
 پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لوٹائے اور کہا ہم نہیں مانتے
 جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے
 ہو ہمیں تو اس میں بڑا شک ہے

العلائقہ

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أِنِّي اللّٰهُ شَكُّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوْكُمْ لِيَّغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ
 ذُنُوْبِكُمْ وَيُوْخِّرَكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ
 تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يٰعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ⑩

ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ میں شک ہے جس نے آسمان اور ⑩
 زمین بنائے وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخشے اور تمہیں
 ایک مقررہ وقت تک مہلت دے انہوں نے کہا تم بھی تو ہمارے جیسے
 انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جنہیں ہمارے
 باپ دادا پوجتے رہے سو کوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ
 مِنْ عِبَادِهٖ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

ان سے ان کے رسولوں نے کہا ضرور ہم بھی تمہارے جیسے ہی ⑪
 آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے
 اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے سوا تمہیں کوئی معجزہ لا
 کر دکھائیں اور ایمان والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیئے

وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ
 ۱۲ ۱۳ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۱۲

اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اسی نے ہمیں (سیدھے) ۱۲
 راستوں کی راہ نمائی کی ہے اور ہم ضرور صبر کریں گے اس ایذا پر
 جو تم ہمیں دیتے ہو اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا

۱۲ ۱۳ چاہیے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ
 إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۱۳

اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال ۱۳
 دیں گے یا ہمارے دین میں لوٹ آؤ تب انہیں ان کے رب نے حکم بھیجا
 کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے

وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۱۴
 اور ان کے بعد اس زمین میں تمہیں آباد کر دیں گے یہ اس کے لیے ۱۴
 ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے میرے عذاب
 سے خوف کھایا

وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۱۵

اور پیغمبروں نے فیصلہ چاہا اور ہر ایک سرکش ضدی نامراد ہوا ۱۵

مِّنْ وَّرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۱۶

اور اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا ۱۶

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ
وَمَرَّ آيَهُ عَذَابٌ غَلِيظٌ ⑰

جسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے گلے سے نہ اتار سکے گا اور ⑰
اس پر ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ نہیں مرے گا اور اس کے
پیچھے سخت عذاب ہوگا

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ
لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ⑱ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ⑲

ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے ⑱
اعمال گویا راکھ ہیں کہ جیسی آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے گئی ہو
جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس میں کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہ رہا
ہو یہ بھی بڑی دو رکی گمراہی ہے

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيدٍ ⑳

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر ⑲
بنایا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ⑳

اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے ⑳

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرٌ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝^{٢١}

اور یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب کمزور متکبروں سے ²¹ کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے سو ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچاؤ گے وہ کہیں گے اگر ہمیں اللہ ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں ہمارے بچنے کا کوئی صورت نہیں

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَا مَوْمَا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِيَّيْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۝ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝^{٢٢}

اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے ²² سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا پھر میں نے وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر اس کے سوا کوئی زور نہ تھا کہ میں نے تمہیں بلایا پھر تم نے میری بات کو مان لیا پھر مجھے الزام نہ دو اور اپنے آپ کو الزام نہ دو نہ میں تمہارا فریادرس ہوں اور نہ تم میرے فریادرس ہو میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے مجھے شریک بناتے تھے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے

وَأَدْخَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا بِأَذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ ﴿٢٣﴾

اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک کام کیے تھے وہ باغوں میں ۲۳
داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں اپنے
رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے آپس میں دعائے خیر ان کی سلام ہو
گی

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
فِي السَّمَاءِ ۖ ﴿٢٤﴾

کیاتو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی ایک مثال بیان کی ہے ۲۴
گویا وہ ایک پاک درخت ہے کہ جس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخ
آسمان ہے

تُوْنِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِأَذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ ﴿٢٥﴾

وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے اور اللہ لوگوں ۲۵
کے واسطے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ ﴿٢٦﴾

اور ناپاک کلمہ کی مثال ایک ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے ²⁶
اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے اسے کچھ ٹھیراؤ نہیں ہے

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ ^{تفلاً} وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ^ع ²⁷

اللہ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں سچی بات پر ثابت ²⁷
قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا
ہے ^ع ¹²

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ²⁸

کیاتو نے انہیں نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ²⁸
ناشکری کی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا

جَهَنَّمَ ^ج يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ ²⁹

جو دوزخ ہے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے ²⁹

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ³⁰

اور لوگوں نے اللہ کی راہ سے بہکانے کے لیے شریک بنا رکھے ³⁰
ہیں کہہ دو نفع اٹھا لو پھر تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلْ ³¹

میرے بندوں کو کہہ دو جو ایمان لائے ہیں نماز قائم رکھیں اور ﴿31﴾
 ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں اس سے
 پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ دوستی

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ
 الْأَنْهَارَ ﴿32﴾

اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی نازل ﴿32﴾
 کیا پھر اس سے تمہارے کھانے کو پھل نکالے اور کشتیاں تمہارے تابع
 کر دیں تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی رہیں اور نہریں تمہارے
 تابع کر دیں

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿33﴾
 اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا جو ہمیشہ چلنے والے ﴿33﴾
 ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو تابع کیا

وَأَتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَآءٍ سَائِلْمَةٌ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ
 لَخَلُوفٌ كَفَّارٌ ﴿34﴾

اور جو چیز تم نے ان سے مانگی اس نے تمہیں دی اور اگر اللہ کی ﴿34﴾
 نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو بے شک انسان بڑا
 اے بے انصاف اور ناشکرا ہے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿35﴾

اور جس وقت ابراہیم نے کہا اے میرے رب ! اس شہر کو امن والا کر ③۵
دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّيَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ③۶

اے میرے رب! انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے پس جس نے ③۶
میری پیروی کی وہ تو میرا ہے اور جس نے نافرمانی کی پس تحقیق تو
بخشنے والا مہربان ہے

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ ③۷

اے رب میرے ! میں نے اپنی کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے ③۷
جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت والے گھر کے پاس اے رب ہمارے! تاکہ
نماز کو قائم رکھیں پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے
اور انہیں میووں کی روزی دے تاکہ وہ شکر کریں

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
فِي السَّمَاءِ ③۸

اے رب ہمارے! بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ③۸
کچھ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر کوئی چیز زمین اور آسمان میں پوشیدہ
نہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾

اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور ﴿٣٩﴾ اسحاق بخشے ہے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ^ط رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

اے میرے رب! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا ﴿٤٠﴾ دے اے ہمارے رب! اور میری دعا قبول فرما

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

اے ہمارے رب! مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ایمانداروں کو ﴿٤١﴾ حساب قائم ہونے کے دن بخش دے

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ^ط إِنَّمَّا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

تو ہر گز خیال نہ کر کہ اللہ ان کاموں سے بے خبر ہے جو ظالم ﴿٤٢﴾ کرتے ہیں انہیں صرف اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس میں نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ^ط وَأَفِدتُهُمْ هَوَاءُ ﴿٤٣﴾

وہ سرا اٹھائے ہوئے دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نظر ﴿٤٣﴾ ان کی طرف ہٹ کر نہیں آوے گی اور ان کے دل اڑ گئے ہوں گے

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۗ ④

اور لوگوں کو اس دن سے ڈراوے کہ ان پر عذاب آئے گا تب ظالم ④ کہیں گے اے رب ہمارے! ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں کیا تم نے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کہیں جانا ہی نہیں ہے

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ⑤

اور تم انہیں لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں ⑤ پر ظلم کیا تھا اور تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا اور ہم نے تمہیں سب قصے بتلائے تھے

وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ⑥

⑥

اور ان لوگوں نے اپنی تدبیریں کی تھیں اور ان کی تدبیریں اللہ کے ⑥ سامنے تھیں اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفاً وَعْدِهِ ۗ رُسُلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ⑦

⑦

پس اللہ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا خیال نہ کریں ﴿47﴾
بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿48﴾
جس دن اس زمین میں سے اور زمین بدلی جائے گی اور آسمان ﴿48﴾
بدلے جاویں گے اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش
ہوں گے

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿49﴾
اور تو اس دن گناہگاروں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا ﴿49﴾
سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿50﴾
کرتے ان کے گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہو ﴿50﴾
گی

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿51﴾
تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے بے شک اللہ بڑی ﴿51﴾
جلدی حساب لینے والا ہے

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيُنذَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَٰهًا
لَّا يَلْبَسُ ﴿52﴾

یہ قرآن لوگوں کے لیے اعلان ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے ﴿52﴾
لوگوں کو ڈرایا جائے اور تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ وہی ایک معبود ہے
اور تاکہ عقلمند نصیحت حاصل کریں

